

سُورَةُ الْيَاسِينِ

Let's Understand
Surah-e-Yaseen

BOOK - III
(for Grade V)

سُورَةُ التَّوْبَةِ

BOOK: 03

Student's Name: _____

Father/Guardian's Name: _____

Class: _____ Section: _____

Subject: _____ Roll No.: _____

Contents

Lesson # 14	3
<i>Exercise A: Arabic Vocabulary</i>	4
<i>Exercise B: Lesson Summary Question</i>	4
<i>Exercise C: Vocabulary Quiz</i>	5
<i>Exercise D: General Knowledge</i>	5
Lesson # 15	6
<i>Exercise A: Arabic Vocabulary</i>	7
<i>Exercise B: Translation of Qur'anic Ayah</i>	7
<i>Exercise C: Vocabulary Quiz</i>	8
<i>Exercise D: General Knowledge</i>	8
Lesson # 16	9
<i>Exercise A: Arabic Vocabulary</i>	10
<i>Exercise B: Coloring the vocabulary</i>	10
<i>Exercise C: Vocabulary Quiz</i>	11
Lesson # 17	12
<i>Exercise A: Arabic Vocabulary</i>	13
<i>Exercise B: Coloring the vocabulary</i>	13
<i>Exercise C: Vocabulary Quiz</i>	14
Lesson # 18	15
<i>Exercise A: Arabic Vocabulary</i>	16
<i>Exercise B: Coloring the vocabulary</i>	16
<i>Exercise C: Vocabulary Quiz</i>	17
Lesson # 19	18
<i>Exercise A: Arabic Vocabulary</i>	19
<i>Exercise C: Vocabulary Quiz</i>	19

Lesson # 14

Qur'anic Ayah

وَمَا تَأْتِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٣٦﴾
إِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا
أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٧﴾
يَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

Urdu Translation

اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔

English Translation

And no sign comes to them from the signs of their Lord except that they are from it turning away. And when it is said to them, "Spend from that which Allah has provided for you," those who disbelieve say to those who believe, "Should we feed one whom, if Allah had willed, He would have fed? You are not but in clear error." And they say, "When is this promise, if you should be truthful?"

Lesson # 14

Exercise A: Arabic Vocabulary

Memorize the vocabulary given below.

comes to them	آئی پاس انکے	تَأْتِيهِمْ
turn away	منہ پھیرنے والے	مُعْرِضِينَ
And when it is said to them	اور جب کہا جاتا ہے انکو	وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ
Spend	خرچ کرو	انْفِقُوا
(has) provided you	دیا تم کو اللہ نے	رَزَقَكُمْ اللّٰهُ
Should we feed	کیا کھلائیں ہم	اَنْطَعِمُ
He would have fed him	کھلا دیتا اسکو	اَطْعَمَهُ

Exercise B: Lesson Summary Question

Complete the given Ayah from lesson # 10.

۱۔ وَ آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚ أَحْيَيْنَاهَا ۖ يَأْكُلُونَ ۝ ۳۳

۲۔ وَ جَعَلْنَا ۖ وَ فَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ۝ ۳۴

وَاخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ	فِيهَا جَنَّتْ مِنْ نَخِيلٍ وَاعْنَابٍ
--------------------------------------	--

Exercise C: Vocabulary Quiz

Complete the vocabulary table given below.

	آئی پاس اکنے	تَأْتِيهِمْ
And when it is said to them	اور جب کہا جاتا ہے انکو	
		أَنْفَقُوا
(has) provided you	دیا تم کو اللہ نے	
		أَنْطَعِمُ
He would have fed him	کھلا دیتا اسکو	

Exercise D: General Knowledge

Join and color the right answer.

We make Snowman

We go for Hajj

We celebrate Eid-ulFitr

After Ramadan

Do more good deeds

Sleeping

Shopping

Benefit of Fasting

Laylatul Jaizah

Laylatul Qadar

Laylatul Hajj

Night in which the reward is equal to that 1000 months

Baab Ar-Rayyan

Baab Al-Jihaad

Gate of Prayer

Name of the gate of Jannah from which only those who

Lesson # 15

Qur'anic Ayah

مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَا
يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ
فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا
مِنْ مَرْقَدِنَا ۚ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾

Urdu Translation

راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آلے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے، تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں۔ اور پھونکا جائے گا صور جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا یہ ہے وہ جس کا رحمن نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا۔

English Translation

They do not await except one blast which will seize them while they are disputing. And they will not be able [to give] any instruction, nor to their people can they return. And the Horn will be blown; and at once from the graves to their Lord they will hasten. They will say, "O woe to us! Who has raised us up from our sleeping place?" [The reply will be], "This is what the Most Merciful had promised, and the messengers told the truth."

Lesson # 15

Exercise A: Arabic Vocabulary

Memorize the vocabulary given below.

they await	انتظار کرتے	يَنْظُرُونَ
it will seize them	پکڑ لے ان کو	تَأْخُذُهُمْ
are disputing	جھگڑ رہے ہوں گے	يَخْصِمُونَ
(to) make a will	وصیت کرنا	تَوْصِيَّةً
And will be blown	پھونکا جائے گا	وَنُفِّخَ
the graves	قبروں	الْأَجْدَاثِ
Who has raised us	کس نے اٹھایا ہم کو	مَنْ بَعَثَنَا
from our sleeping place	ہماری خواب گاہ سے	مِنْ مَّرْقَدِنَا

Exercise B: Translation of Qur'anic Ayah

Translate the Urdu in Arabic ayah given from lesson # 15-

۱۔ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آلے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے ۴

۲۔ اور پھونکا جائے گا صور جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے ۵

Exercise C: Vocabulary Quiz

Complete the vocabulary table given below.


		يَنْظُرُونَ
it will seize them	پکڑ لے ان کو	
(to) make a will	وصیت کرنا	
		وَأُفِخَ
		الْأَجْدَاثِ
Who has raised us	کس نے اٹھایا ہم کو	
from our sleeping place	ہماری خواب گاہ سے	

Exercise D: General Knowledge


What should we say after/before?




When we greet someone



When we sneeze



When we go upstairs



When someone gives present



We want to do something later



When we go downstairs

JazakAllah
جزاک اللہ

Insha'Allah
انشاء اللہ

Assalam o alaikum
اسلام علیکم

Alhamdulillah
الحمد للہ

SubhanAllah
سبحان اللہ

Allah o Akbar
اللہ اکبر

Lesson # 16

Qur'anic Ayah

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾
إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهُونَ ﴿٥٥﴾

Urdu Translation

وہ تو نہ ہو گی مگر ایک چنگھاڑ جیھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہو گا اور تمہیں بدلانہ ملے گا اپنے کیے کا، بیشک جنت والے آج دل کے بہلاؤوں میں چین کرتے ہیں۔

English Translation

It will not be but one blast, and at once they are all brought present before Us. So today no soul will be wronged at all, and you will not be recompensed except for what you used to do. Indeed the companions of Paradise, that Day, will be amused in [joyful] occupation -

Lesson # 16

Exercise A: Arabic Vocabulary

Memorize the vocabulary given below.

all before Us	سب کے سب نزدیک ہمارے	جَمِيعٌ لَّدَيْنَا
(will be) brought	حاضر ہونے والے ہیں	مُحَضَّرُونَ
So this Day	پس آج کے دن	فَالْيَوْمَ
not will be wronged	نہ ظلم کیا جائے گا	لَا تُظْلَمُ
you will be recompensed	نہ جزا دیے جاؤ گے تم	تُجْزَوْنَ
[in] will be occupied	بیچ ایک کام کے	فِي شُغْلٍ
(in) amusement	خوش ہیں	فَكِهُونَ

Exercise B: Coloring the vocabulary

Color the image, from the lesson shown below;



Exercise C: Vocabulary Quiz

Complete the vocabulary table given below.

		جَمِيعٌ لِّدِينِنَا
(will be) brought	حاضر ہونے والے ہیں	
		فَالْيَوْمَ
not will be wronged	نہ ظلم کیا جائے گا	
[in] will be occupied		فِي شُغْلٍ
(in) amusement	خوش ہیں	

Lesson # 17

Qur'anic Ayah

هُمْ وَ أَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَ لَهُمْ مِمَّا يَدْعُونَ ۖ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَ امْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾

Urdu Translation

وہ اور ان کی بیبیاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے، ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگیں، ان پر سلام ہوگا، مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ اور آج الگ پھٹ جاؤ، اے مجرمو!

English Translation

They and their spouses - in shade, reclining on adorned couches. For them therein is fruit, and for them is whatever they request [or wish]. [And] "Peace," a word from a Merciful Lord. [Then He will say], "But stand apart today, you criminals.

Lesson # 17

Exercise A: Arabic Vocabulary

Memorize the vocabulary given below.

in shades	بچ سائیوں کے	فِي ظِلِّ
on [the] couches	اوپر تختوں کے	عَلَى الْأَرَابِكِ
reclining	تکیہ لگائے	مُتَّكِئُونَ
(is) whatever they call for	جو کچھ چاہیں	مَا يَدْعُونَ
A word	کہا جائے گا	قَوْلًا
But stand apart	اور جدا ہو جاؤ	وَأَمْتَاؤُوا
O criminals	اے گناہگاروں	أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

Exercise B: Coloring the vocabulary

Color the image, from the lesson shown below;



Exercise C: Vocabulary Quiz

Complete the vocabulary table given below.

	بیچ سائیوں کے	
		مُتَّكِئُونَ
(is) whatever they call for	جو کچھ چاہیں	
A word	کہا جائے گا	
		وَأَمْتَارُوا
O criminals	اے گناہگاروں	

Lesson # 18

Qur'anic Ayah

أَلَمْ آعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَى آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾
وَأَن آعْبُدُونِى-هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا
كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾

Urdu Translation

اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا بیشک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بیشک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی۔

English Translation

Did I not enjoin upon you, O children of Adam, that you not worship Satan - [for] indeed, he is to you a clear enemy - And that you worship [only] Me? This is a straight path. And he had already led astray from among you much of creation, so did you not use reason?

Lesson # 18


Exercise A: Arabic Vocabulary

Memorize the vocabulary given below.

Did not I enjoin	کیا نہیں عہد کیا تھا میں نے	أَلَمْ أَعْهَدْ
upon you	طرف تمہاری	إِلَيْكُمْ
(do) not worship	نہ عبادت کرو تم	لَا تَعْبُدُوا
And that you worship Me	اور یہ کہ عبادت کرو میری	وَأَنْ اَعْبُدُونِي
And indeed	اور البتہ تحقیق	وَلَقَدْ
he led astray	گمراہ کیا اس نے	أَضَلَّ
a multitude	خلقت	جِبَلًا

Exercise B: Coloring the vocabulary

Color the image, from the lesson shown below;



Exercise C: Vocabulary Quiz

Complete the vocabulary table given below.

		أَلَمْ آعْهَدْ
upon you	طرف تمهاری	
		لَّا تَعْبُدُوا
		وَّ أَنِ اعْبُدُونِي
And indeed	اور البتہ تحقیق	
he led astray	گمراہ کیا اس نے	
a multitude	خلقت	

Lesson # 19

Qur'anic Ayah

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾
الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ افْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾

Urdu Translation

یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا، آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا، آج ہم ان کے مونہوں پر
مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کئے کی گواہی دیں
گے

English Translation

This is the Hellfire which you were promised. [Enter to] burn therein today for what you used to deny." That Day, We will seal over their mouths, and their hands will speak to Us, and their feet will testify about what they used to earn.

Lesson # 19

Exercise A: Arabic Vocabulary

Memorize the vocabulary given below.

promised	وعدہ دیئے جاتے	تُوْعَدُونَ
Burn therein	داخل ہو اس میں	اِصْلَوْهَا
disbelieve	کفر کرتے	تَكْفُرُونَ
We will seal	مہر لگا دی ہم نے	نَخْتِمُ
their mouths	انکے مونہوں کے	اَفْوَاهِهِمْ
and will speak to Us	باتیں کریں گے ہم سے	وَنُكَلِّمُنَا
their feet	پاؤں ان کے	اَرْجُلَهُمْ
earn	کماتے	يَكْسِبُونَ


Exercise B: Vocabulary Quiz

Complete the vocabulary table given below.

promised	وعدہ دیئے جاتے	
		اِصْلَوْهَا
disbelieve	کفر کرتے	
		نَخْتِمُ
		وَنُكَلِّمُنَا
their feet	پاؤں ان کے	
		يَكْسِبُونَ



"This book translates the Quranic Surah-e-Yaseen into Urdu and English languages. The workbook also include practice exercises through which students can understand and practice Arabic content from Surah-e-Yaseen."



+923329993145

www.pak.ilmforall.org



+923323793145